



میری ماں وفات پا گئی ہے اور اس کے ایک مہینے کے روزے رکھے گئے ہیں کیا میں اس کی طرف سے ان کی ادائیگی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض واجب الادا ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے اسے ادا کرتے؟ اس نے جواب دیا کہ: ہاں اس پر آپ نے فرمایا: اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حق دار ہے

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میری ماں وفات پا گئی ہے اور اس کے ایک مہینے کے روزے رکھے گئے ہیں کیا میں اس کی طرف سے ان کی ادائیگی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض واجب الادا ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے اسے ادا کرتے؟ اس نے جواب دیا کہ: ہاں اس پر آپ نے فرمایا: ”اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حق دار ہے“ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے نذر کا ایک روزہ واجب الادا تھا کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: مجھے بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر کچھ قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے جواب دیا کہ: ہاں، آپ نے فرمایا: تو پھر اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھو

[صحیح] [متفق علیہ]

اس حدیث کی دو روایات ہیں اور سیاق سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں نہ کہ ایک ہی واقعہ: پہلی روایت: یہ ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور اس نے آپ ﷺ کو بتایا کہ اس کی ماں وفات پا گئی ہے اور اس کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے کیا اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے ان کی ادائیگی کرے؟ دوسری روایت: ایک عورت نبی ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کی ماں وفات پا گئی ہے اور اس کے ذمے نذر کا ایک روزہ واجب الادا تھا کیا وہ اس کے طرف سے روزے رکھ سکتی ہے؟ نبی ﷺ نے دونوں کو فتویٰ دیا کہ وہ اپنے والدین کے ذمے واجب الادا روزے رکھیں پھر آپ ﷺ نے انہیں یہ بات سمجھانے کے لیے اور مزید وضاحت کے لیے ایک مثال دی کہ اگر ان کے والدین کے ذمے کسی آدمی کا کوئی قرض ہوتا تو کیا وہ ان کی طرف سے اسے ادا کرتیں؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ: ہاں اس پر آپ ﷺ نے انہیں بتایا کہ: یہ روزے اللہ کا ان کے والدین پر قرض ہے اور جب آدمی کا قرض ادا کیا جاتا ہے تو اللہ کا قرض بدرجہ اولیٰ ادا کرنا چاہیے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

